

## فیوزنل سروسز فنڈ (دعوت اسلامی) برائے سال 2026 (دورانیہ 12 ماہ)

نافذ العمل از یکم جنوری 2026 تا 31 دسمبر 2026

### شرائط وضوابط و مصارف

#### ابتدائیہ:

آنر لینڈ میں وفات پانے والے مسلمانوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسلامی رسم و رواج اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق یہاں دفن ہو سکیں یا اپنے آبائی وطن میں دفن کئے جاسکیں، جس کے لئے مختلف قسم کی کمیٹیوں میں لوگ اپنی رجسٹریشن کروا رکھتے ہیں، ان کمیٹیوں کا مقصد ممبر کے فوت ہو جانے پر اس کی میت اس کے آبائی وطن میں بھیجنا اور ساتھ ضمانت اور ثاباتی امداد کرنا ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی سے یو کے ویورپ میں مقیم مسلمانوں کا پر زور تقاضہ سامنے آیا کہ دعوت اسلامی شرعی تقاضوں کے مطابق ایسی کمیٹی بنائے کہ جو ہمارے انتقال کر جانے کے بعد ہماری ڈیڈ باڈی کو اسلامی رسم و رواج اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق یہاں دفن دے یا ضرورتاً آبائی وطن (مثلاً پاکستان / ہند / بنگلہ دیش وغیرہ) بھیجے تاکہ وہاں ہماری تدفین ہو سکے۔ پس دعوت اسلامی کے تحت آنر لینڈ بھر میں موجود مسلمانوں کی خیر خواہی کے لئے ایک ایسا فنڈ قائم کیا گیا ہے جو کہ انہیں ممبران کے دینے گئے چندے ہی سے کام کرے گا اور درج ذیل معاملات میں شرعی تقاضوں کے مطابق امداد کی صورت بنائی جائے گی۔ ان شاء اللہ عزوجل

#### مقصد:

یہ فیوزنل سروسز فنڈ بنانے کا مقصد امت کی خیر خواہی، فلاح و بہبود کا کام اور مسلمانوں کو حرام کام سے بچانا ہے۔ نیز منسلک افراد کے درمیان دینی کام بڑھا کر، نیکی کی دعوت کا کام سرانجام دینا ہے۔ اس کے علاوہ بنیادی دنیاوی مقصد یہ ہے کہ فوت ہو جانے والے ممبر کی میت کو قرآن و سنت کے مطابق یو کے میں دفن یا اس کے آبائی وطن اس کے ورثاء تک پہنچانے کا انتظام کیا جاسکے۔ یاد رہے! میت کے آبائی وطن وراثت تک پہنچانے یا آنر لینڈ میں دفن کرنے کا انحصار ممبر شپ حاصل کرنے والے کے انتخاب پر ہو گا۔

**اہم نوٹ:** اس فنڈ کو انشورنس یا اسلامی کہلانے والے اداروں یا بینکوں کا تکفل سسٹم نیز یورپ میں رائج دیگر ڈیڈ میت کمیٹیوں کی طرح ہرگز نہ سمجھا جائے کہ انشورنس تو ویسے ہی خالص سودی معاملہ ہے اور تکافل سسٹم پر دارالافتاء اہلسنت کو شدید تحفظات ہیں۔ مزید یہ کہ تکافل سسٹم والے صرف اسی کی مدد کرتے ہیں جو فنڈ جمع کروائے لیکن ہمارا یہ فنڈ خالصتاً تبرع اور نیکی پر مشتمل ہے جو ممبر فنڈ جمع نہیں کروائے گا اس کی بھی مدد سب کے مساوی ہی کی جائے گی، انشورنس اور تکافل میں پہلے ڈاکٹری ٹیسٹ کروایا جاتا ہے سخت موذی امراض میں مبتلا افراد کو پالیسی دی نہیں جاتی تاکہ وہ کمپنی کے گلے نہ پڑیں لیکن یہ فیوزنل سروسز فنڈ عین قرآن و سنت کی روح کے مطابق ہے اس میں اس طرح کی کوئی خلاف مروت شق شامل نہیں۔ نیز ہمارا یہ فنڈ دوسری کمیٹیوں سے یوں مختلف وافرادی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ چندے کی صورت ہے، اس میں جو دے گا وہ ثواب کا حقدار ہو گا اور کسی کو بھی دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ البتہ یہ سہولیات ہم اس مد میں جمع ہونے والے چندے سے ہی دے رہے ہیں لہذا آپ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے، ظاہر ہے عطیات نہ ہونے کی صورت میں یہ فنڈ مستقل نہیں چلا یا جاسکے گا۔

#### قواعد وضوابط:

1. کمیٹی فنڈ میں ممبر شپ حاصل کرنے کے لئے اہلسنت والجماعت سے صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تمام فیوزنل سروسز بشمول نماز جنازہ اہلسنت والجماعت کی مساجد یا سینٹر میں ہی ادا کی جائے گی۔ صحیح العقیدہ مسلمان ہونے کی پہچان کیلئے درخواست گزار کے علاقے میں موجود کسی بھی سطح کے تصدیق کی اہلیت رکھنے والے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کی تصدیق کفایت کرے گی۔
2. جو شخص اس کمیٹی فنڈ کے قوانین اور شرائط سے متفق ہو گا، وہی اس کمیٹی فنڈ کی رکنیت حاصل کر سکتا ہے۔
3. کمیٹی کا ممبر بننے کے لئے رجسٹریشن کروانا لازمی ہے، نیز رجسٹریشن کی کوئی فیس نہیں۔ رجسٹریشن کے بغیر کسی بھی شخص کو کمیٹی سہولیات دینے کی پابندی نہیں ہوگی۔
4. رجسٹریشن سال کے کسی بھی مہینے میں کروائی در ہے ار رجسٹریشن کرنے کے مجاز صرف ایریا کمیٹی ذمہ دار ہوں گے، ان کے علاوہ کسی بھی ذمہ دار دعوت اسلامی کو رجسٹریشن کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
5. آن لائن رجسٹریشن کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ خواہش مند افراد اعلان فارم کے ذریعے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ البتہ اپنی اعلان درخواست کی تصدیق کروانے کے لئے ایف ایم ایف کے کسی ایریا فیسر سے ویریفائی کروانا ضروری ہو گا۔ یاد رہے! رجسٹریشن تب ہی مکمل سمجھی جائے گی کہ جب ہیڈ آفس سے آپ کو کنفرمیشن کی ای میل / ایس ایم ایس / فون کال کمیٹی کے رجسٹرڈ مشنر ذرائع سے وصول ہو جائے اور آپ کو آپ کا رجسٹریشن کوڈ جاری کر دیا جائے۔ نیز ایک ماہ میں آپ کو ممبر شپ کارڈ بھی وصول ہو جائے گا۔
6. اگر فنڈ دینے کی آپشن اختیار کی ہے تو رجسٹریشن مکمل ہو جانے پر رواں سال کا فنڈ جلد از جلد جمع کروا دیا جائے تاکہ کمیٹی کو اپنے کام سرانجام دینے میں آسانی ہو اور آپ بھی ثواب کے حقدار بن سکیں۔ سال کے شروع یا بعد میں آنے والے تمام ممبر زبرابر کے حق دار ہوں گے۔ نیز درخواست دیتے وقت بھی فنڈ جمع کروانے کی سہولت موجود ہوگی، اگر رجسٹریشن کسی وجہ سے نہ ہو سکی تو وہ فنڈ آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔
7. رجسٹریشن ہو جانے کے بعد ہر سال جنوری کے مہینے میں رجسٹریشن کی تجدید کروانی ہوگی۔ تجدید کے لئے صرف رجسٹریشن فارم / رینیوئل فارم پُر کر کے جمع کروانا کفایت کرے گا۔ (نیز رینیوئل کرواتے وقت مزید فنڈ بھی جمع کروایا جاسکتا ہے۔)
8. رجسٹریشن کی تجدید نہ کروانے کی صورت میں ممبر شپ کینسل سمجھی جائے گی۔ ایک بار ممبر شپ کینسل ہو جانے کی صورت میں، دوبارہ نئے سرے سے رجسٹریشن کروانی ہوگی۔
9. البتہ رجسٹریشن کینسل ہو جانے کی صورت میں، آپ کی جمع شدہ رقم میں سے کمیٹی کے جملہ اخراجات میں سے بچ جانے والی رقم آپ کی لامنت ہوگی جو کہ آپ کے وارث / نائب کو دی جائے گی۔ یاد رہے! وارث کا انتخاب اور تفصیل رجسٹریشن فارم پر کرتے وقت دینا ضروری ہے تاکہ آپ کی بچی ہوئی رقم آپ کے وارث / نائب تک با آسانی پہنچائی جاسکے۔

10. یہ کمیٹی فنڈ یکم جنوری 2026ء سے 31 دسمبر 2027ء دورانہ 12 ماہ تک فیوزل سروسز فنڈ" کے نام سے قائم کیا جا رہا ہے، آئندہ سال اس کمیٹی فنڈ کے قواعد و ضوابط اور شرائط وغیرہ میں تبدیلی کی جاسکتی ہے، جو کہ رجسٹریشن فارم / ریٹیل فارم کے ساتھ شرائط فارم پر واضح کر دی جائیں گی

## ممبر شپ:

- ◀ ممبر شپ حاصل کرنے والا ہر شخص رقم بطور چندہ / صدقہ ایف ایس ایف کمیٹی کو جمع کروانے کیلئے فارم کے آخر میں موجود کالو میں سے کسی ایک آپشن کا انتخاب کر سکتا ہے۔
- ◀ ہر ممبر کو چاہیے کہ منتخب کردہ آپشن کے مطابق چندہ / صدقہ ایف ایس ایف مکتہ صورتوں میں ہر سال اپنی ممبر شپ کی میعاد ختم ہونے سے قبل جمع کروادیں کیونکہ کمیٹی کے تحت اخراجات کا دار و مدار اس مد میں فنڈ موجود ہونے پر منحصر ہوگا لیکن ممبران کے لئے فنڈ دینا آپشن ہے یعنی وہ چاہیں تو فنڈ دیں چاہیں تو نہ دیں، کم دیں یا زیادہ دیں۔
- ◀ ممبر شپ ہونے کی صورت میں کمیٹی اپنی سہولیات صرف ممبر ہی کو دینے کی پابند ہوگی، اس کی فیملی کو دینے کی پابند نہ ہوگی۔
- ◀ کمیٹی کے تحت مذکورہ سہولیات حاصل کرنے کیلئے ہر فیملی ممبر (بچہ ہو یا بڑا) کی رجسٹریشن الگ ہوگی اور ہر فیملی ممبر کو الگ رجسٹریشن کوڈ جاری کیا جائے گا اور اس کی فائل جدا ہوگی۔ یاد رہے! چونکہ یہ فنڈ چندے اور صدقے کی ایک صورت ہے، لہذا اس مد میں نابالغ بچے کی ذاتی رقم نہیں لے سکتے۔ البتہ والدین اپنی ذاتی رقم سے بچوں کی طرف سے مزید فنڈ بھی جمع کروا سکتے ہیں لیکن یہ فنڈ بھی ان والدین ہی کی طرف سے شمار ہوگا۔
- ◀ کمیٹی کے تحت رجسٹریشن کرواتے وقت درج ذیل مطلوبہ دستاویزات جمع کروانے ہوں گے۔

1۔ دو عدد حالیہ تصاویر 2۔ پاسپورٹ کی فوٹو کاپی 3۔ آبائی وطن کے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی 4۔ منتخب کردہ وارث / نائب / امین (نامزد شخص) کے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی

## اخراجات و مصارف:

آپ کی جمع کروائی گئی رقم میت کے متعلقہ کسی بھی جائز امر میں استعمال کی جاسکتی ہے۔ مثلاً: گورنمنٹ سے ڈیڈ باڈی کی کلیئرنس کروانے، سرخانے کے اخراجات، ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات، سفر کی صورت میں سفر کے اخراجات، غسل و کفن اور تابوت وغیرہ کے اخراجات، باڈی کا مکمل پر اس کسی ادارے کے ذریعے کروانے کی صورت میں اس ادارے کے اخراجات، ڈیڈ باڈی پاکستان بھجوانے کی صورت میں ایئر لائن کے اخراجات، لواحقین میں سے کسی فرد کی ٹکٹ کے اخراجات، ایف ایس ایف کے شعبے میں اجیر رکھنے، اجیر کی تنخواہ ادا کرنے یا کوئی کام مزدوری پر کروانے، اس کے علاوہ متعلقہ انتظام کی مینجمنٹ کے اخراجات مثلاً پیک، ڈاک، کارڈ، ڈاکیومنٹس، شرعی و قانونی رہنمائی دینے لینے اور پیپر و اسٹیشنری وغیرہ سب شامل ہیں۔ عند الضرورت قبرستان کیلئے جگہ خریدنے، میت وین خریدنے اور سرخانہ وغیرہ بنانے میں بھی آپ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے۔ نیز ان سب کے علاوہ شرائط میں درج دیگر سہولیات بھی اس فنڈ سے دی جائیں گی۔

**اہم نوٹ:** اجمودات مقرر کی گئی ہیں، اگر ان کے وقوع کا تناسب کم رہا، تو ممکن ہے وافر مقدار میں فنڈ موجود ہو اور اگر وقوع سے زیادہ ہوئے، تو فنڈ میں کمی ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ یاد رہے کہ امداد صرف اسی صورت میں کی جائے گی جب کہ کمیٹی کے پاس فنڈ موجود ہوگا، اگر فنڈ موجود نہ ہوئے تو کمیٹی امداد کرنے کی پابند نہ ہوگی۔ مگر ایف ایس ایف اخلاقیات و استحسان لوگوں سے چندے کی اپیل کرے گی اور کوشش کرے گی کہ امداد کی صورت بن سکے۔

## اہم شرعی مسئلہ

دارالافتاء اہلسنت سے حاصل ہونے والی شرعی رہنمائی کے مطابق ممبر زسے جو رقم جمع کی جائے گی، چونکہ وہ رقم چندے کی حیثیت سے ہوگی اور چندہ، چندہ دینے والوں کی ملک پر باقی رہتا ہے، لہذا خدا نخواستہ اگر کوئی ممبر فوت ہو جائے اور اس کی جمع شدہ رقم تا حال کسی مصرف میں خرچ نہ ہوئی ہو، تو وہ رقم ترک کہلائے گی اور وہ ساری رقم وراثت کو دینا لازم ہوگی یا کچھ رقم مصرف میں خرچ ہوگئی اور کچھ بچ گئی، تو بچنے والی رقم حصہ رسد کے مطابق وراثت کو دینی ہوگی۔ مثلاً 4 ممبر تھے اور ہر ایک نے 100€ جمع کروائے تھے اور یوں ٹوٹل 400€ جمع تھے اور ان میں سے ابھی 200€ خرچ ہوئے تھے کہ ان 4 میں سے ایک ممبر فوت ہو گیا، تو حصہ رسد کے حساب سے ان میں سے ہر ایک ممبر کے 50€ بقیہ بچتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ حصہ رسد کے حساب سے فوت ہونے والے ممبر کے بھی 50€ بقیہ بچتے ہیں، جو اس کے وراثت کو واپس کئے جائیں گے۔ و علیٰ ہذا القیاس

پس فنڈ چلاتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ پچھلے سال کی جمع رقم سے تمام تر اخراجات کرتے ہوئے اس فنڈ کو بالکل صفر کیا جائے گا۔ فنڈ کے صفر ہوجانے سے پہلے اگر فنڈ میں رقم جمع کروانے والے کسی ممبر کا انتقال ہو جاتا ہے تو مثلاً پچاس ہزار میں اس کے دو سو پورو کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ یہ حساب نکالنا بہت مشکل ہوگا اس سلسلے میں ایک احتیاطی پہلو پر عمل کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ فنڈ صفر ہونے سے پہلے اگر ممبر کا انتقال ہوتا ہے تو جتنی رقم اس نے جمع کروائی ہے مثلاً: فنڈ بارہ ماہ میں صفر ہو یا پندرہ ماہ میں اس کے حساب سے پوری رقم اس کے وراثت کو یہ کہہ کر دی جائے کہ اسے وراثت کے حصوں کے مطابق تقسیم کر لیا جائے ممکن ہے کہ اس رقم میں کچھ رقم ممبر کی ذاتی ہو اور کچھ زیادہ ملے، زائد ملنے والی رقم تبرع ہوگی۔ واضح رہے کہ ممبر کے انتقال پر جو امداد اور سہولیات ملتی تھی وہ الگ سے ملیں گی، سوائے کچھ مخصوص صورتوں کے۔

## سہولیات:

1. اگر کسی ممبر کا آئر لینڈ ہی میں انتقال ہو جاتا ہے تو کمیٹی اس کی ڈیڈ باڈی کے پر اس پر آنے والے اخراجات ادا کرے گی۔ آئر لینڈ میں تدفین کا پر اس کروانے کی صورت میں میت کے وراثت کو میت کا حصہ رسد (اور مکتہ صورت میں اوپر بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق بطور وراثت رقم) دی جائے گا
2. اگر کسی ممبر کا آئر لینڈ میں انتقال ہو جاتا ہے اور اس نے اپنی ڈیڈ باڈی آبائی وطن بھجوانے کا آپشن منتخب کیا ہو ہے تو کمیٹی اس کی میت اس کے آبائی وطن (مثلاً پاکستان) بھجوانے کے اخراجات کرے گی نیز میت کے ساتھ جانے کے لئے ایک فرد کی ٹکٹ دی جائے گی، یعنی فلائٹ ٹکٹ کی انوائس پر درج رقم متعلقہ شخص کے حوالے کر دی جائے گی جو کہ زیادہ سے زیادہ 800€ تک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میت کے وراثت کو میت کا حصہ رسد (اور مکتہ صورت میں اوپر بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق بطور وراثت رقم) دیا جائے گا

3. اگر کوئی ممبر اپنے آبائی وطن (مثلاً پاکستان وغیرہ) جاتا ہے اور وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی رجسٹریشن کینسل کر کے میت کے جمع کروائے ہوئے فنڈ کا حصہ رسد (اور ممکنہ صورت میں اوپر بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق بطور وراثت رقم) دی جائے گی۔ اس صورت میں اگر یہ بطور وراثت دے جانے والی رقم 1000€ سے کم کی ہوتی ہو تو کمیٹی مزید رقم ملا کر اسے پورا 1000€ کر کے دے گی۔
4. اگر کسی ممبر کا آرژینٹین یا اس کے آبائی وطن کے علاوہ کسی ملک میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی رجسٹریشن کینسل کر کے میت کے جمع کروائے ہوئے فنڈ کا حصہ رسد (اور ممکنہ صورت میں اوپر بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق بطور وراثت رقم) دی جائے گی۔ اس صورت میں اگر یہ دی جانے والی رقم 2000€ سے کم بن رہی ہو تو کمیٹی اس میں مزید رقم ملا کر اسے پورا 2000€ کر کے دے گی۔
5. اگر کوئی ممبر قریب المرگ ہے اور مرنے سے پہلے اپنی وطن جانا چاہتا ہے تو کمیٹی اس کی مدد کرے گی۔ اسے ایف ایس ایف کی جانب سے 1000€ دیا جائے گا، نیز اس کی رجسٹریشن کینسل کر کے، اس کا حصہ رسد (اور ممکنہ صورت میں اس کی مکمل جمع کروائی ہوئی رقم) اسے دے دی جائے گا۔
6. جس صورت میں جہاز کی ٹکٹ دینا طے ہے اس صورت میں ایسے قریبی رشتہ دار کو ہی جہاز کی ریٹرن ٹکٹ دی جائے گی کہ جس کا نام رجسٹریشن فارم پر موجود ہو گا۔ اگر آرژینٹین میں کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص ڈیڈ ہاؤس کے ہمراہ آبائی وطن جانے تو ایسی صورت میں ایسے فرد کو عند الضرورت صرف یکطرفہ یا ریٹرن میت کے ساتھ والا ٹکٹ مجلس کی مشاورت کے ساتھ دیا جائے گا۔
7. جس صورت میں جہاز کی ٹکٹ دینا طے ہے، اس صورت میں فلائٹ ٹکٹ کی انوائس پر درج رقم متعلقہ شخص کے حوالے کر دی جائے گی جو کہ زیادہ سے زیادہ 800€ تک ہو سکتی ہے۔
8. جس صورت میں ٹکٹ دینا طے ہے اس صورت میں کمیٹی سے ٹکٹ حاصل کرنے اور رابطہ کرنے کی مبادیبت کے انتقال سے 7 دن تک ہوگی یعنی میت کے انتقال کے ایک ہفتے کے اندر اندر پاسپورٹ وغیرہ کے ساتھ کمیٹی سے ٹکٹ کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ تاخیر سے رابطہ کرنے کی کوئی معقول وجہ ہوئی جس سے کمیٹی انتظامیہ مطمئن ہوئی تو میعاد کے بعد بھی ٹکٹ دی جائے گی۔
9. جن صورتوں میں وراثت کو حصہ رسد اور جمع کروائی ہوئی مکمل رقم بطور وراثت دینے کا ذکر ہے، ان صورتوں میں میت کے نامزد شخص تک ہی یہ رقم پہنچائی جائے گی۔ اس نامزد شخص کا نام و دیگر کوائف فارم کے آخر میں لازماً درج فرمائیں، اس نامزد شخص تک رقم پہنچانے کے بعد کمیٹی بری الذمہ ہوگی۔
10. ممبر زین سے کسی بھی شخص کے پر اس کے اخراجات ادا کرنے سے قبل ایف ایس ایف مجلس، دارالافتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی حاصل کر کے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق سارا کام سرانجام دینے کی پابند ہوگی۔

## اختتامیہ

- ❖ ممبر اگر رہائشی ایڈریس تبدیل کرے تو 15 دنوں کے اندر اس کی اطلاع دینا ضروری ہوگا۔ نیز پاسپورٹ ری نو ہونے کی صورت میں بھی نئے پاسپورٹ کی فوٹو کا پی 15 دنوں کے اندر کمیٹی کو جمع کروانا ہوگی۔
- ❖ ممبر اگر قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرتا یا انفارمیشن حقیقت کے برخلاف دیتا ہے یا کسی بھی ایسے کام میں ملوث پایا جاتا ہے کہ جس میں رجسٹریشن کینسل کر دینا ناگزیر ہو جائے تو کمیٹی ایسے ممبر کی رجسٹریشن کینسل کرنے کی مجاز ہوگی۔ کینسلیشن کی صورت میں اس کے فنڈ کے بقایا جات کا حصہ رسد اس تک پہنچایا جائے گا۔
- ❖ اس فنڈ کو چلانے کے لئے ایک مستقل مجلس ہوگی جو کہ ضروری تحقیق کے بعد فنڈ جاری کرے گی۔
- ❖ جب کسی ممبر کا انتقال ہو جائے تو اس کی فیملی یا اس کا نائب اس کی ڈیڈ ہاؤس کا پر اس رسد کروائے گا، سب معاملات ختم کر لینے کے بعد ڈیپتھ سرٹیفیکیٹ اور اخراجات کے بل / واؤچرز، ایف ایس ایف میں جمع کروائے جائیں گے، انہیں کی بنا پر کمیٹی اخراجات ادا کرے گی۔
- ❖ کوائف و شرائط فارم پر کر کے مجلس فیونزل سرو سز فنڈ کو جمع کروانا ہر ایسے شخص کے لئے ضروری ہے جو ممبر بننا اور اس فنڈ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ممبر شپ کے امیدوار کو دو آپشنز دیئے گئے ہیں کہ آیا وہ اس فنڈ میں سالانہ رقم جمع کروانا چاہتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ پہلے آپشن کو منتخب کرتا ہے تو اس صورت میں اس فنڈ میں سالانہ کتنی رقم جمع کروائے گا؟ اگر کوئی امیدوار فنڈ نہیں جمع کروانا چاہتا ہے بھی وہ یہ فارم ضرور پر کرے گا اور اپنی پسند کے کالم کو منتخب کرے گا۔ تاکہ اس فارم کے ذریعے فیونزل سرو سز فنڈ "مجلس کاریکارڈ مکمل بن سکے اور اس امیدوار کی رجسٹریشن ہو سکے تاکہ عند الضرورت اس کی امداد کی جاسکے۔ ریکارڈ میں نام نہ آنے یا فارم نہ بھرنے والے کی کسی بھی قسم کی غمخساری کی جائے گی، لہذا مجلس فیونزل سرو سز تک یہ فارم پہنچانا اور رجسٹریشن مکمل کروانا ہر سال ممبر شپ کی میعاد پوری ہونے پر اپنی رجسٹریشن کی تجدید کروانا ممبر کی ذمہ داری ہے۔
- ❖ اس فارم میں موجود تمام تریا تیں فنڈ کے مصارف سے تعلق رکھتی ہیں اور فنڈ دینے والوں کی رضامندی سے یہ فنڈ خرچ ہوگا۔ ممبر شرعاً اس فنڈ سے کسی بھی ایسی چیز کا تقاضہ نہ کرے جس کا تذکرہ تفصیل میں نہیں ہوا کہ شرعاً ایسے تقاضے پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ 12 ماہ بعد آنندئی یعنی جنوری 2026 میں شرائط و مصارف میں ترمیم و اضافہ ہو سکتا ہے جس کی تفصیل فارم میں تحریر کر دی جائے گی، جو ممبر فارم پر کرتے وقت ملاحظہ کر سکے گا۔
- ❖ اس فیونزل سرو سز فنڈ کے تحت جان پہچان یا خاص ذمہ داری کو بنیاد بنائے بغیر ہر ممبر کی ایک خود کار نظام کے مطابق فارم میں مذکورہ معاملات میں مدد کو یقینی بنایا جائے گا، ممبر ان سے صرف امانت کی پاسداری کرنے، درست معلومات دینے اور فیونزل سرو سز فنڈ "کے ضمن میں غیر متعلقہ تقاضوں سے بچنے کی التجا ہے۔
- ❖ لواحقین کا حق خود ممبر کرے گا کہ اس کے انتقال کے بعد یہ رقم کس فرد کو دی جائے۔ لواحقین دو طرح کے ہو سکتے ہیں:
  - 1) ایک وہ فرد متعین جو مجلس فیونزل سرو سز فنڈ سے رقم لینے کا مجاز ہو اس کی حیثیت صرف امین اور نمائندہ کی ہوگی جو وصول کردہ رقم کا مالک ہرگز نہیں ہوگا۔
  - 2) دوسرے وہ لواحقین جن کو مجلس کی طرف سے بطور تملیک برابر یا اس تناسب سے جو ممبر نے مقرر کی ہے رقم دی جاسکتی ہے۔ یاد رہے! کم از کم ایک شخص کو بطور نمائندہ / نائب نامزد کرنا ضروری ہے نیز جس شخص کو منتخب فرما رہے ہیں اس کے لئے کم از کم ان دو شرائط پر پورا اترنا بھی لازمی ہے:

## (1) عاقل و بالغ ہونا (2) پاسپورٹ کا موجود ہونا

- ❖ نائب کا مکمل ڈیٹا فارم پر تحریر فرمائیں نیز جس شخص کو بطور نائب منتخب کر رہے ہیں اس کو مکمل اطلاع بھی دیں کہ وہ مجلس فیونزل سرو سز فنڈ سے رقم لینے کا مجاز ہو گا نیز اس رقم کا وہ شخص کیا کرے گا؟ کسے دے گا؟ کہاں کہاں خرچ کرے گا؟ یہ سب مکمل تفصیل اسے بتا دینے کی التجا ہے۔ مجلس فیونزل سرو سز فنڈ آپ کے منتخب کردہ اس شخص کو روم پہنچانے کی ذمہ دار ہے، اس تک رقم پہنچ جانے کے بعد مجلس اس رقم کی ذمہ دار نہ ہوگی۔

نوٹ: اگر کسی ممبر یا اس کے لواحقین کو یہ شکایت ہو کہ اس کی شرائط کے باوجود امداد انہیں کی گئی وہ ایف ایس ایف آرژینٹینڈ آفس کے درج ذیل ای میل ایڈریس پر شکایت درج کروا سکتے ہیں: [fsf@dawateislami.ie](mailto:fsf@dawateislami.ie)

## تصدیق نامہ

میں نے فیوزرل سروسز فنڈ (ایف ایس ایف) میں بیان کردہ چندے کے مصارف، اخراجات اور طریقہ کار کو مکمل طریقے سے پڑھ / سن اور سمجھ لیا ہے۔ نیز تمام تر خلاصہ سمجھنے کے بعد میں ان تمام شرائط پر مجلس فیوزرل سروسز فنڈ (دعوت اسلامی) کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ مجلس میرا چندہ ان مذکورہ بالا تمام امور میں استعمال کر سکتی ہے، مزید برآں یہ کہ میں تمام شرائط کی مکمل پابندی کروں گا۔

(درج ذیل میں سے کوئی ایک کالم منتخب فرمائیں)

میں اس فنڈ میں سالانہ درج ذیل منتخب کردہ آپشن کے مطابق رقم جمع کرواؤں گا۔

☐ سالانہ 30 یورو ☐ سالانہ 50 یورو ☐ سالانہ 70 یورو ☐ سالانہ 90 یورو ☐ سالانہ 100 یورو ☐ سالانہ ----- یورو

☐ میں اس فنڈ میں سالانہ کوئی رقم جمع نہیں کروانا چاہتا۔

### نمائندہ / نائب / امین

نام (نائب): \_\_\_\_\_ ولدیت: \_\_\_\_\_ پاسپورٹ نمبر: \_\_\_\_\_  
فون نمبر: \_\_\_\_\_ رہائشی پتہ: \_\_\_\_\_

میں مذکورہ بالا شخص کو اپنا نمائندہ / نائب / امین مقرر کرتا ہوں، میری طرف سے مجلس فیوزرل سروسز فنڈ کو اس بات کی اجازت ہے کہ میرے حق میں آنے والی رقم مذکورہ بالا شخص کے سپرد کر دے۔

### درخواست دہندہ کی معلومات

نام امیدوار: \_\_\_\_\_ ولدیت: \_\_\_\_\_ پاسپورٹ نمبر: \_\_\_\_\_  
فون نمبر: \_\_\_\_\_ رہائشی پتہ: \_\_\_\_\_

دستخط امیدوار: \_\_\_\_\_ عیسوی تاریخ: \_\_\_\_\_ دستخط فارم وصول کنندہ: \_\_\_\_\_  
رجسٹریشن نمبر: \_\_\_\_\_ تاریخ رجسٹریشن: \_\_\_\_\_ دستخط مجاز فیوزرل سروسز فنڈ: \_\_\_\_\_

مجلس فیوزرل سروسز فنڈ (دعوت اسلامی آئرلینڈ)